

نگرانِ مجلسِ اجارہ کی تنظیمی ذمہ داریوں (Job Description) کے نکات (مختصر)

مدنی مقصد: مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ان شاء اللہ عزوجل

ذمہ دار کیسا ہو؟۔ خوفِ خدا و عشقِ مصطفیٰ والا ✨ حسنِ اخلاق کا پیکر ✨ غصیلا اور بات بات پر ناراض ہونے کے بجائے حلم و بردباری والا ✨ مُرشد مُرشد کرنے والا ✨ 12 مدنی کام کرنے والا ✨ مدنی مرکز کی اطاعت کرنے والا ✨ وقت دینے والا ✨ اور فرضِ علوم سیکھنے والا (مدنی ہو تو بہت اچھا ہے)

نیت کی حفاظت: اچھی اچھی نیتیں کرتے رہیے، مثلاً (رضائے الہی ✨ حصولِ ثواب ✨ اسلام و مہنت کی خدمت کے لئے دُنیا بھر میں دعوتِ اسلامی کا مدنی کام کروں گا ✨ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مدنی مرکز کی اطاعت کروں گا)

- 1. رابطے میں رہیں:** ہفتہ وار اجتماع اور ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں نگران و ماتحت سے ملاقات کرنا ✨ ای میلز، وٹس ایپ اور میسجز چیک کرنا بروقت رپلائی کرنا ✨ ضرور ٹاکلز کرنا سننا وغیرہ۔
- 2. 12 مدنی کام:** عملاً (Practically) 12 مدنی کاموں بالخصوص مدرسۃ المدینہ بالغان، علاقائی دورہ، ہفتہ وار اجتماع، یومِ تعطیل اعتکاف، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، مدنی انعامات اور مدنی قافلہ میں شرکت کرنا اور کروانا۔

3. شعبے کے دیگر نمایاں مدنی کام: ✨ شعبے (HR) سے وابستہ مدنی ماحول سے منسلک عاشقانِ رسول اور پھر ان کی معاونت سے شعبہ (HR) کے نئے نئے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کرنا ✨ اجارہ دفاتر کا مدنی مشورہ کرنا (مثلاً مجلسِ اجارہ کے پاکستان آفس میں مکی، مدنی، عطاری، بغدادی اور ضیائی شعبہ جات (دعوتِ اسلامی کے 60 سے زائد شعبہ جات کے اجارے کے نظام کی منظوری اور کام میں آسانی کے لئے اجیروں کی تعداد اور نظام کے مطابق ملتے جلتے شعبہ جات کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نیز ریجن کے تمام زون کو ڈیل کرنے کے لئے الگ دفتر ہیں)، اسی طرح اگر نگرانِ مجلس کا جدول زون میں ہو تو ریجن ذمہ دار کے ساتھ مل کر زون دفتر وغیرہ) کا بالمشافہ مدنی مشورہ کرنا (بعض 3 زون اور بعض 2 زون پر سفر کے لحاظ سے دفتر بنائے گئے ہیں عموماً زون دفتر کا مدنی مشورہ زون / ریجن ذمہ دار نے کرنا ہوتا ہے) ✨ تمام اجیروں کے جملہ امور (اجارہ، اجیر خیر خواہی فنڈ اور ٹیسٹ مجلس) نیز نیا اجارہ متعلقہ مجلس کی مشاورت سے کرنا اور ان تمام شعبوں کے مسائل حل کروانا (رابطے کرنا) ✨ اجیر کا مکمل اور درست ریکارڈ محفوظ رکھنا ✨ چھوڑ کر چلے جانے والوں سے وجوہات (مثلاً پے رول میں) لینا اور ریکارڈ بنانا کہ اس ہفتے، اس ماہ، اس سال اتنے اجیر چھوڑ کر چلے گئے ✨ کسی نا انصافی یا حق تلفی کی صورت میں معاملہ دارالافتاء کے ذریعے سے حل کروانا، اس کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لینا اور وقتاً فوقتاً خود بھی چھوڑ جانے والوں سے معلومات لینا، نیز آئندہ کے لئے ایسے عاشقانِ رسول کے مسائل کے تدارک کے لئے موثر اقدامات کرنا ✨ نگرانِ مجلسِ اجارہ کا شعبہ جات کے ذمہ داران کے بنائے گئے حاضری و مشاہرہ جات، سالانہ بونس، لیون ان کیٹمنٹ (Leave Encashment) کا جائزہ لینا ✨ ہر ماہ بروقت مشاہرہ جات و دیگر تمام ادائیگیاں کرنے کی معلومات مجلس مالیت کو بروقت بھیجنا ✨ اجیروں کو مختلف مواقع (یومِ پیدائش، اجارے کا سال مکمل ہونے، ممتاز، بہتر کارکردگی، ماہانہ مشاہرہ اور دیگر ادائیگیوں کے بننے وغیرہ) پر شکریہ وغیرہ کا پیغام بھجوانا ✨ تفہیم نامہ، آزمائشی بننے کی صورت میں اس کا اجراء کروانا، یوں ہی متعلقہ مجلس اور افتاء مکتب کی مشاورت سے معذرت نامہ جاری کروانا / تبادلہ کروانا ✨ مستقل بننے / گریڈنگ کے متعلق

اجیر اور متعلقہ شعبہ کو بروقت مطلع کرنا کروانا اور اس میں اور دیگر تمام معاملات (مثلاً معلومات فراہم کرنا، جلد تر مسائل حل کرنا وغیرہ میں) معاونت کرنا ❀ پاک کابینہ دفتر سے جاری ہونے والی تنظیمی ذمہ داریوں (Job Description) کے نکات کے مطابق شرائط فارم اپڈیٹ رکھنا اور اپڈیٹ شرائط فارم مجلس تنظیمی ذمہ داریوں (Job Description) کے نکات کو بھیجنا ❀ اجارہ کے حوالے سے متعلقہ مجالس اور ذمہ داران نیز مجلس تنظیمی ذمہ داریوں (Job Description) کے نکات کی مشاورت سے اصول و ضوابط بنانا اور افتاء مکتب سے شرعی اور مجلس تنظیمی ذمہ داریوں (Job Description) کے نکات سے تنظیمی تفتیش کروا کر تمام اجیروں تک پہنچانا ❀ اجارہ کے اختتام سے کم از کم ایک ماہ پہلے اجیروں کے آئندہ کے لئے فائل ایجاب مکمل کروانا ❀ آڈٹ جدول کرنا اور کروانا ❀ کمزوریوں اور شکایات کا حل کرنا (ماہانہ کتنی شکایات؟ کتنی حل ہوئیں؟ کتنی حل نہ ہو سکیں)۔

4. کارکردگی فارم و مدنی پھول: تمام شعبہ جات کے اپ ڈیٹ (UPDATE) مدنی پھول، تمام سطح کے کارکردگی فارمز اور تنظیمی ذمہ داریوں (Job Description) کے نکات ❀ مرکزی مجلس شوریٰ، نگران پاکستان انتظامی کابینہ، رکن شوریٰ کے اور دیگر مدنی مشوروں کے مدنی پھولوں کا مطالعہ کرنا، سمجھنا، اپنے پاس محفوظ رکھنا اور متعلقہ ذمہ داران تک پہنچا کر ملنے کی تصدیق (Confirmation) کے بعد باہتمام سمجھانا اور طے شدہ کاموں کا نفاذ کروانا۔

5. تقرری و ریکارڈ: تمام سطحوں (ریجن اور زون نیز ذیلی شعبہ جات) پر تقرری پوری کرنا، پوری رکھنا اور ہر ماہ فعال/غیر فعال ذمہ داران کا جائزہ لینا (نوٹ:- کسی بھی ذمہ دار کی تبدیلی/تقرر پاک کابینہ دفتر سے جاری تحریری مدنی پھولوں کے مطابق کرنا) ❀ اپنا متبادل تیار رکھنا اور ماتحتوں کو بھی اس کا ذہن دینا ❀ شعبے میں مدنی کاموں کی مضبوطی اور اسکی ترقی کے لیے نئے نئے ذمہ داران تیار کرنا اور شرعی، اخلاقی اور تنظیمی مدنی پھول پیش کرتے رہنا ❀ شعبے سے متعلقہ تمام اداروں (HR) اور منسلکین نیز اجیروں کی لسٹ بنانا اور بنوانا، (HR) شعبے کا تجربہ رکھنے والے افراد کے نام، نمبر مع ایڈریس کا ڈیٹا اپڈیٹ رکھنا اور اسی طرح مدنی عطیات دینے والی شخصیات کی الگ الگ اپ ٹو ڈیٹ انداز میں لسٹ محفوظ رکھنا اور رکھوانا اور ان سے مختلف مواقع پر رابطے میں رہنا۔ اپڈیٹ لسٹیں ہر ماہ اپنے رکن شوریٰ کو اور پاک کابینہ آفس تقرری ذمہ دار کو بھیجنا۔

6. دور جدید کے تقاضے: ❀ اپنے شعبے کی مضبوطی و ترقی کے لیے کوشاں رہے مثلاً شعبے کے بنائے گئے سافٹ ویئر میں کارکردگیوں وغیرہ کے اندراج کو مکمل کروانا، سافٹ ویئر کا جائزہ لیتے رہنا اور سافٹ ویئر کو مشاورت کے ساتھ اپڈیٹ کرتے رہنا ❀ الحمد للہ آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ (دعوتِ اسلامی) کی 30 سے زائد اپیلیکیشنز بن چکی ہیں ان کو اور بطور خاص IESS اپیلیکیشن کو استعمال کرنا اور شعبے سے متعلقہ عاشقانِ رسول اور شخصیات کو ان کا تعارف پیش کر کے انسٹال کرنے اور دوسروں کو استعمال کروانے کی ترغیب دلانا۔ (ان اپیلیکیشنز کے لنک اس ایک اپیلیکیشن Dawateislami Digital Services میں موجود ہیں) اسی طرح دعوتِ اسلامی کی تنظیمی ویب سائٹ WWW.DAWATEISLAMI.ORG کا وزٹ کرتے کرواتے رہنا ❀ بالخصوص ذمہ داران اور گھر گھر میں مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دلانا ❀ ماہنامہ فیضانِ مدینہ کی بگنگ کرنا اور کروانا ❀ ہفتہ وار لہڑی راتوں اور ذمہ داران و عاشقانِ رسول کے سنتوں بھرے اجتماعات وغیرہ میں اپنے شعبے کے بستے اور پینا فلیکس لگوانا ❀ مدنی چینل اور مجلس سوشل میڈیا کے ذریعے تشہیر کرنا، شعبے کی مدنی خبریں دینا۔

7. **مدنی کورسز:** ہر ماہ اہداف طے کر کے یوں ہی وقتاً فوقتاً شعبے کے تحت پیشگی بھرپور تیاری کے ساتھ خود مدنی کورسز کرنا نیز تمام ذمہ داران و عاشقانِ رسول کو مختلف جزوقتی و کل وقتی نیز آن لائن مدنی کورسز (مثلاً اصلاح اعمال کورس، 12 مدنی کام کورس اور مدنی کورس وغیرہ) بالخصوص فیضانِ نماز کورس کروانا۔

8. **خاص مواقع:** اپنے شعبے کی 12 ماہ میں کم از کم ایک بار عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ کراچی میں حاضری کروانا ❀ بڑی راتوں کے اجتماعات (اجتماعِ میلاد، اجتماعِ غوثیہ، اجتماعِ یومِ غریب نواز، اجتماعِ معراج، اجتماعِ شبِ براءت، اجتماعِ شبِ قدر اور اجتماعِ یومِ رضا وغیرہ) نیز جلوسِ میلاد ❀ نگرانِ شوریٰ اور رکنِ شوریٰ کے سنتوں بھرے بیانات ❀ نگرانِ پاکستان انتظامی کابینہ کے "ذمہ داران و عاشقانِ رسول کے سنتوں بھرے اجتماعات" ❀ مدنی مذاکرہ، ہفتہ وار اور دیگر اجتماعات ❀ 26 ویں شریف (امیرِ اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کے یومِ ولادت پر یہ ترکیبِ اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہے) کے لیے ایصالِ ثواب کے تحائف جمع کروانا ❀ محرم الحرام اور دیگر مواقع کے خصوصی مدنی قافلے سفر کروانا ❀ پورے ماہِ رمضان اور آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے شعبے سے عاشقانِ رسول تیار کرنا۔

9. **ازدِیادِ حُب:** غمی خوشی کے مواقع نیز وقتاً فوقتاً (بالخصوص اپنے شعبے والے سابقہ اور موجودہ) عاشقانِ رسول اور شخصیات سے شرعی، تنظیمی اور ملکی قوانین کے مطابق ملاقات، عیادت، تعزیت اور کفن و دفن وغیرہ (پیغامات، مکتوبات و اورادِ عطاریہ جاری کروانا) ❀ ماہانہ کتب و رسائل اور ماہنامہ فیضانِ مدینہ پہنچانے کی تراکیب کرنا ❀ ان کے بچوں کو جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ اور فیضان ویک اینڈ اسلامک اسکول میں داخل کروانا ❀ ان کے گھر میں مجلسِ معاونت برائے اسلامی بہنیں کے ذریعے مدنی ماحول قائم کرنا۔

10. **مرحومین دعوتِ اسلامی:** والدین و خاندانِ امیرِ اہلسنت، مرحوم نگران و اراکینِ شوریٰ، ذمہ داران، شہداء و مفتی دعوتِ اسلامی اور مجاہدین دعوتِ اسلامی کے ایام پر ایصالِ ثواب کے اجتماعات کرنا/ کروانا یا شرکت کرنا/ کروانا۔

11. **مدنی عطیات و خود کفالت:** اپنے شعبے کو %100 خود کفیل کرنے کے لئے (بالخصوص مدنی مشوروں میں) انفرادی ماہانہ و سالانہ اہداف دینا اور اس کا جائزہ کرتے اور کرواتے رہنا (خود کفیل کرنے کی صلاحیت رکھنے والوں کو ذمہ داری دینا) ❀ ماہانہ مدنی عطیات بکس، گھریلو صدقہ بکس اور مدنی بستے بڑھانے میں معاونت ❀ سالانہ مدنی عطیات (رجب، شعبان، رمضان اور شوال) ❀ ٹیلی تھون ❀ قربانی کی کھالیں ❀ مختلف اجتماعات کے لیے مدنی عطیات جمع کرنا۔ اس کے لئے موقع کی مناسبت سے بڑے مدنی مراکز (فیضانِ مدینہ) بالخصوص عالمی مدنی مرکز کراچی، دارالافتاء اہلسنت (ملاقات)، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اور فیضان ویک اینڈ اسلامک اسکول (تعمیر شدہ و زیرِ تعمیر) میں شخصیات کی حاضری پیشگی تیاری و متعلقہ ذمہ دار کی مشاورت کے ساتھ کروانا ❀ شخصیات کے اعزاء و اقربا سے رابطے میں رہنا ❀ اہم شخصیات کی الگ سے وقت لے کر اپنے رکنِ شوریٰ سے ملاقات اور مدنی حلقے منعقد کروانا۔

12. **مطالعہ:** حسبِ حال فرضِ علوم ❀ تفسیرِ صراطِ الجنان ❀ امیرِ اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کی جُمُله تحریرات (کُتب، رسائل اور پمفلٹ) کے مطالعے کی تحریک چلانا اور یوں ہی المدینۃ العلمیہ کی پیش کردہ تمام کتب و رسائل بھی ہدف میں شامل ہوں تو کیا بات ہے نیز تنظیمی کتب و رسائل بالخصوص رسائلِ دعوتِ اسلامی، 12 مدنی کاموں و مدنی مذاکروں کے رسائل ❀ مرکزی مجلسِ شوریٰ و دیگر مدنی مشوروں

کے مدنی پھول ❀ مدنی انعامات میں ترغیب شدہ کتب و رسائل ❀ فیضانِ فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد 2 ❀ ماہانہ مدنی مشوروں کا بیان ❀ حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول ❀ بہارِ شریعت حصہ 14 سے اجارہ کا بیان ❀ بچت کے مدنی پھول (مجلس مالیات) ❀ شعبے کے مدنی پھولوں میں درج مطالعہ کرنا اور کروانا (تحائف میں یہ کتب و رسائل نیز یو ایس بی/میموری کارڈز ہوں تو کیا بات ہے!) (تنظیمی ذمہ داریوں (Job Description) کے نکات میں درج ایسے کام جو شرائط فارم میں شامل نہیں ہیں ان کاموں سے متعلق دورانِ اجارہ متعلقہ مجلس اجارہ اور جدول ذمہ دار کی مشاورت سے ترکیب کرنی ہوگی)

13. مدنی مشورے: مدنی مشوروں میں اول تا آخر شرکت کرنا ❀ ملک سطح کے مدنی مشورے میں صرف ریجن ذمہ داران کی ہی شرکت ہو ❀ نگرانِ مجلس کا جب ریجن میں جدول ہو تو طے شدہ شرکاء کو ہی بلایا جائے۔ (ان کے علاوہ کو بلانا چاہیں تو ریجن نگران کی مشاورت و اجازت ضروری ہے) ❀ طے شدہ مدنی مشوروں کے علاوہ اگر مدنی مشورے کی ضرورت محسوس ہو تو بذریعہ انٹرنیٹ (Zoom یا Skype) مدنی مشورہ کیا جاسکتا ہے ❀ مدنی مشوروں کے مدنی پھول: پاک کابینہ دفتر سے بھیجا جانے والا "مدنی مشوروں کا بیان" پڑھ کر سنانا، محاسبہ کروانا، تقرری کا جائزہ، پیشگی و کارکردگی جدول، کارکردگی کا تقابلی جائزہ، اگلے ماہ کے اہداف، تنظیمی شکایات اور ان کا حل ❀ شعبہ ذمہ دار یا نگران نے شعبے کی جس سطح (مثلاً رکن شوریٰ یا نگرانِ پاکستان انتظامی کابینہ نے کسی ریجن کے زون ذمہ داران کا مدنی مشورہ کر لیا ہو تو وہ مدنی مشورہ طے شدہ جدول کا ہی شمار ہو گا دوبارہ اس سطح کے مدنی مشورے کی مقررہ مدت میں حاجت نہیں۔

#	سطح	دورانیہ	شرکاء	مدنی مشورہ کرنے والے	وقت (علاوہ نماز و طعام)
1	ملک	ہر 3 ماہ	ریجن ذمہ داران	متعلقہ رکن شوریٰ / نگرانِ پاکستان انتظامی کابینہ / نگرانِ مجلس پاکستان	مکمل دن

14. شیڈول: مجلس جدول کی جانب سے ملنے والے پیشگی جدول (Schedule) پر پیشگی اطلاع کے ساتھ عمل کرنا اور کروانا۔ مہینہ مکمل ہونے پر یکم سے 3 تاریخ تک کارکردگی جدول اور اسی طرح جب بھی جدول میں تبدیلی ہو متعلقہ ذمہ داران (اپنے رکن شوریٰ اور مجلس جدول) کو بھیجنا ❀ 4 ماہ میں پاکستان کے تمام زون میں حاضری مکمل کرنا (شعبے کے مدنی کام + 12 مدنی کاموں میں شرکت کا عملی شیڈول) ❀ ملک بھر کے جامعات المدینہ میں (متعلقہ ذمہ دار کی مشاورت اور مجلس جامعہ المدینہ کے طے شدہ مدنی پھولوں کے مطابق) (جامعہ المدینہ میں شعبے (مجلس اجارہ) کے اہم کاموں سے متعلق رہنمائی کرنا، مدنی کاموں میں شرکت کرنا) ❀ افتاء مکتب میں ہفتے میں 1 دن حاضری ❀ جہاں بھی مدنی مشورے یا دیگر مدنی کاموں کا شیڈول ہو تو پیشگی اطلاع کے ساتھ ترکیب کی جائے۔

15. کارکردگی: ریجن ذمہ داران سے ہفتہ وار رسالے کی رکنی اور ان کے زون ذمہ داران کی انفرادی کارکردگی لینا جبکہ اپنی انفرادی کارکردگی پاک کابینہ آفس میں جمع کروانا اور اپنے رکن شوریٰ کو پیش کرنا ❀ ہر ماہ نیز مختلف تنظیمی مواقع پر تمام ریجنوں کی کارکردگی لینا، چیک کرنا، سابقہ کارکردگی سے اس کے مقابل کا جائزہ لینا اور اپنے رکن شوریٰ کو اور پاک کابینہ دفتر میں کارکردگی جمع کروانا۔ اور مزید ترقی کے لئے کوشش کرنا ❀ کارکردگی کے تقابلی جائزے پر ملنے والے مکتوب / صوتی پیغام کا جواب (Reply) دینا۔

16. آئندہ کے اہداف اور فالو اپ: مدنی مشورے میں سابقہ مدنی مشورے کے اہداف کا جائزہ لینا اور آئندہ کے اہداف طے کرنا ❁ مرکزی مجلس شوریٰ، نگرانِ پاکستان انتظامی کابینہ، متعلقہ رکن شوریٰ کے اور دیگر مدنی مشوروں کے مدنی پھولوں نیز ❁ دیگر اہداف کا فالو اپ کرنا ❁ مجلس فالو اپ کی طرف سے آنے والے فالو اپ (اہداف) کے مدنی پھولوں کا جواب اپنے رکن شوریٰ اور پاک کابینہ دفتر شعبہ مجلس فالو اپ کو بھیجنا۔

17. تنظیمی شکایات و تجاویز: شعبے سے متعلق تنظیمی شکایات کو حل کرنا، آنے والی تجاویز پر مشورہ کرنا اور ممکنہ صورت میں نافذ کرنا، شعبہ تنظیمی شکایات و تجاویز کی طرف سے موصول ہونے والی تنظیمی شکایات و تجاویز کا رپلائی کرنا ❁ نئی نئی تجاویز بطور ناقص مشورہ نیز تنظیمی شکایات حل نہ ہونے کی صورت میں ijara.mts@dawateislami.net یا 03152584974 پر بھیجنا، یہاں سے رپلائی نہ ملنے یا شکایت نہ حل ہونے کی صورت میں پاک کابینہ دفتر شعبہ تنظیمی شکایات و تجاویز feedbackpak@dawateislami.net پر 03152692786 کے ذریعے بھیجنا۔

18. سنتوں بھرے اجتماعات: پرانے اور نئے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی۔ تنظیمی ذمہ داریوں (Job Description) کے نکات اور شعبے کے مدنی پھولوں نیز کارکردگی فارمز کے لیے وقتاً فوقتاً مدنی مراکز (فیضانِ مدینہ) میں سنتوں بھرے اجتماعات کی تراکیب (اجازت کے ساتھ) کرنا۔

پاک کابینہ دفتر 5 ذوالحجۃ الحرام 1441ھ / 27 جولائی 2020ء